

PRESS RELEASE

For immediate release

April 2, 2021

ایس ای سی پی نے نان بینکنگ فنانس کمپنیوں کے ریگولیشنز میں ترامیم تجویز کر دیں

اسلام آباد (2 اپریل 2021) سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے نان بینکنگ مائیکرو فنانس کے شعبے میں رسک مینجمنٹ کو بہتر کرنے اور چھوٹے قرض دہندگان کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے نان بینکنگ فنانس کمپنیوں اور نوٹیفائیڈ اداروں کے ریگولیشنز میں ترامیم تجویز کر دیں ہیں۔ ان ترامیم کا مقصد اداروں میں مالیاتی نظم و ضبط قائم کرنا ہے۔ تجویز کردہ ریگولیشنز کا مسودہ عوامی رائے عامہ کے لئے کمیشن کی ویب سائٹ پر فراہم کر دیا گیا ہے۔

مائیکرو فنانس کمپنیاں بھی چھوٹے کاروبار کو قرض فراہم کر کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور مالیاتی شمولیت کے فروغ اور غربت میں کمی کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس وقت پاکستان میں کل 26 نان بینکنگ مائیکرو فنانس کمپنیاں کام کر رہی ہیں جن کے قرض دہندگان کی تعداد تیس لاکھ سے زائد ہے اور ان کا کل پورٹ فولیو 72 ارب روپے ہے۔

کرونا وائرس کی وباء کے نتیجے میں نان بینکنگ مائیکرو فنانس کمپنیوں کو شدید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، تاہم، ایس ای سی پی نے بروقت فیصلے کرتے ہوئے نان بینکنگ مائیکرو فنانس کمپنیوں اور مائیکرو فنانس کمپنیوں کے صارفین (قرض دہندگان) کی سہولت اور آسانی کے لئے انضباطی ریلیف فراہم کیا۔ مجوزہ مسودہ میں ایس ای سی پی نے وہ تمام ضروری ترامیم بھی تجویز کیں جن کے ذریعے پاکستان مائیکرو فنانس انوسٹمنٹ کمپنی، اس شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کو زیادہ سے زیادہ سرمایہ فراہم کر کے ان کمپنیوں کی مالی استطاعت کو بڑھا سکے گی اور یہ کمپنیاں زیادہ سے زیادہ صارفین کو قرض فراہم کر سکیں گی۔ پاکستان مائیکرو فنانس انوسٹمنٹ کمپنی، مائیکرو فنانس سیکٹر میں کام کرنے والی کمپنیوں کو سرمایہ یا قرض فراہم کرتی ہے۔ تاہم، بھی بھی کورونا وائرس کے منفی اثرات کو کم کے لئے نان بینکنگ مائیکرو فنانس کمپنیوں کے ریسورس بیس کو بہتر طور پر منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایس ای سی پی نے کورونا وائرس کی وباء سے متاثرہ کاروبار

اور ان کی کارگردگی، گورنس لیکوڈیٹی، ریسک مینجمنٹ اور کریڈیٹ انڈر رائٹنگ کو بہتر بنانے کے لیے ترامیم تجویز کی ہیں۔ ایس ای سی پی سمجھتا ہے کہ بنیادی ڈھانچہ کے استحکام سے گورنس کا نظام مربوط ہوگا، موثر رسک مینجمنٹ بہتر ہوگی اور لیکوڈیٹی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ادارہ جاتی میکنزم پر عملدرآمد میں مدد ملے گی۔ ترامیم کا مسودہ مندرجہ ذیل لنک پر دستیاب ہے؛

<https://www.secp.gov.pk/document/sro-370-dated-29-3-2021-draft-amendments-to-the-nbfc-regulations-2008/> .